

ISLAMABAD CAPITAL TERRITORY POLICE HEALTH CARD INFORMATION

70
,0
01.
~

Employee Name Rank with No. POINT		P	ersonnel No.					
NIC	mployee Name							
EMPLOYEE FAMILY DETAILS No. Name CNIC DOB Relation with Emple Father Mother Milef Husband								
EMPLOYEE FAMILY DETAILS No. Name CNIC DOB Relation with Emple Father Solution Pather Pather	nk with No.							
EMPLOYEE FAMILY DETAILS No. Name CNIC DOB Relation with Emple Father Mother Wife/Husband Wife/Husband Signature ODING FOR OFFICE USE ONLY Blood Group: Blood Group: Blood Group: Blood Group: Blood Group: Relation with Emple Father Father Wife/Husband Signature ODING Family No. /Admin //Admin // //Admin // // // // // // // // //	IIC				-	Cell No.		
EMPLOYEE FAMILY DETAILS do. Name CNIC DOB Relation with Emple Father Mother Wife/Husband Signalura Details Color Dob Relation with Emple Father Wife/Husband Signalura Details Mother Wife/Husband Signalura Details For Office Use Only Mother Family No. /Admin Admin Admin Mother Family No. /Admin Admin Admin Mother Family No. /Admin Mother Family No. /Admin Mother Mother Mother Family No. /Admin Mother	te of Birth		D.O. Reci	ruitment		D.O. Reta	inment	
EMPLOYEE FAMILY DETAILS do. Name CNIC DOB Relation with Employ Father Mother Wife/Husband Signature ODHIQ Father Wife/Husband Mother Wife/Husband Father Wife/Husband Wife/Husband Signature ODHIQ Father Wife/Husband Wife/Husband Father Wife/Husband Wife/Husband Signature ODHIQ Father Wife/Husband	nergency Conta	ct:	-	1				
Ro. Name CNIC DOB Relation with Emple Father Ro. Name CNIC DOB Relation with Emple Father Rother Mother Wife/Husband Solution Solutio	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						<u> </u>	
Father Mother Mother Wife/Husband Wife/Husband Wife/Husband الله الله الله الله الله الله الله الل			EMPLOY	A SECTION AND A SECTION AS A SECTION A				2 %
Wife/Husband الم		Name		CNIC	D	ОВ		
ز مین اسلام آباد پولیس کی و یلفیتر کے لئے ہے۔ فارم میں اپنی اور فیملی کی درست انفار میشن درج کریں ۔ کسی بھی قتم کی غلط انفار میشن کی صورت برا روائی عمل میں لائی جاسکتی ہے۔ میں نے فارم میں درج تمام معلومات درست درج کی میں درج کی میں بازم الماضات ہوں ہے۔ میں اسلام الماضات ہوں ہے۔ میں الماضات ہے۔ میں الما							Moth	er
ز مین اسلام آباد پولیس کی و بیفیئر کے لئے ہے۔ فارم میں اپنی اور فیملی کی درست انفار میشن درج کریں ۔ کسی بھی قتم کی غلط انفار میشن کی صورت کا اور فیملی کی میں اپنی اور فیملی کی درست انفار میشن کی درست درج کی میں اور کی تمیں لوگی جاسکتی ہے۔ میں نے فارم میں درج تمام معلومات درست درج کی میں درج تمام معلومات درست درج کی میں ادرج خوالی المحافظ ا							Wife/Hus	band
ق المام آباد پولیس کی و بلفیئر کے لئے ہے۔ فارم میں اپنی اور فیملی کی درست انفار میشن درج کریں ۔ کسی بھی تم کی غلط انفار میشن کی صورت میں اپنی اور فیملی کی درست انفار میشن درج کریں ۔ کسی بھی تم کی غلط انفار میشن کی صورت میں روائی عمل میں لائی جاسکتی ہے۔ میں درج تمام معلومات درست درج کی ہیں درج تمام معلومات درست درج کی ہیں ادرج تمام معلومات درست درج کی ہیں مازم درج تمام معلومات درست درج کی ہیں درج تمام معلومات درست درج کی ہیں درج تمام معلومات درست درج کی ہیں درج تمام معلومات درج تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تما								
ز مین اسلام آباد بولیس کی و میلفیئر کے لئے ہے۔ فارم میں اپنی اور فیملی کی درست انفار میشن درج کریں۔ کسی بھی قتم کی غلط انفار میشن کی صورت برا وائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ میں نے فارم میں درج تمام معلومات ورست درج کی ہیں دستون پولیس ملازم Holder received the Original Card as per Specime FOR OFFICE USE ONLY Verified by OSI DATA Signature ODING Family No. /Admin	i							
ز مین اسلام آباد پولیس کی و بلفیئر کے لئے ہے۔ فارم میں اپنی اور فیملی کی درست انفار میشن درج کریں ۔ کسی بھی قتم کی غلط انفار میشن کی صورت بھی اور کئی میں اپنی اور فیملی کی درست درج کی میں درج تمام معلومات درست درج کی میں درج تمام معلومات درست درج کی میں اور کئی کئی اور کئی میں اور کئی میں اور کئی کئی اور کئی کئی اور کئی کی درست درج کی میں اور کئی میں اور کئی کئی اور کئی کئی اور کئی کئی اور کئی کئی کے خوان اور کئی کئی کی درست انفار میشن کی میں اور کئی کئی کے خوان کی کئی کئی کے درست درج کی میں اور کئی کئی کے درست درج کی میں اور کئی								
ز مین اسلام آباد پولیس کی ویلفیئر کے لئے ہے۔ فارم میں اپنی اور فیملی کی درست انفار میشن درج کریں ۔ کسی بھی قتم کی غلط انفار میشن کی صورت بر اوائی عمل میں لائی جاسکتی ہے۔ میں نے فارم میس درج تمام معلومات درست درج کی بیس درج تمام معلومات درست درج کی بیس مانزم Holder received the Original Card as per Specime FOR OFFICE USE ONLY Verified by OSI DATA Signature ODIHQ Family No. /Admin								
ز مین اسلام آباد پولیس کی و بلفیئر کے لئے ہے۔ فارم میں اپنی اور فیملی کی درست انفار میشن درج کریں ۔ کسی بھی تم کی غلط انفار میشن کی صورت میں روزج تمام معلومات درست درج کی ہیں ورج تمام معلومات درست درج کی ہیں ورج تمام معلومات درست درج کی ہیں ان کی جاسمان میں لائی جاسمی خوادہ میں معلومات درج تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تما	3							
ز مین اسلام آباد پولیس کی و بلفیئر کے لئے ہے۔ فارم میں اپنی اور فیملی کی درست انفار میشن درج کریں ۔ کسی بھی قتم روائی عمل میں لائی جاسکتی ہے۔ میں نے فارم میں درج تمام معلومات درست درج کی ہیں ادستان میں لائی جاسکتی ہے۔ میں نے فارم میں درج تمام معلومات درست درج کی ہیں ادستان کی جاسکتی ہے۔ میں نے فارم میں درج تمام معلومات درست درج کی ہیں ادستان کی جاسکتی ہے۔ میں نے فارم میں درج تمام معلومات درست درج کی ہیں ادبائی جاسکتی ہے۔ میں نے فارم میں درج تمام معلومات درست درج کی ہیں ادبائی جاسکتی ہے۔ میں نے فارم میں درج تمام معلومات درست درج کی ہیں ادبائی میں ادرج تمام معلومات درج تمام کی خلاصات کی میں ادرج تمام کی میں ادرج تمام کی معلومات کی میں ادرج تمام کی خلاصات کی میں ادرج تمام کی میں کر تمام کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کر تمام کی کر تمام کی میں کر تمام کی کر تمام								
روائی عمل ملیں لائی جا سکتی ہے۔ ملیں نے فارم ملیں درج تمام معلومات ورست درج کی ہیں ورئی کی ہیں مازم Holder received the Original Card as per Specime FOR OFFICE USE ONLY Verified by OSI DATA Signature ODI/HQ Family No. /Admin	0							
/erified by OSI DATA Signature ODI/HQ Family No. /Admin	ريان نان مورك.		ئى كىيى		م میں درج تمام معلو	ہے۔ میں نے فار	ں میں لائی جاسکتی۔	.کاروا کی ^{عم}
Signature ODI/HQ			FOR C	FFICE L	ISE ONLY			
Verified by Admin DATA Signature I/C Admin HQ	erified by OSI [DATA sig	nature ODI/HQ	ŭ	Fami	ly No.	"	Admin
	Verified by Admi	in DATA Signat	ture I/C Admin HO					
Senior Superintendent of Police Logistics Headquarters Islamab		aignat	and to Admin no					

Dated: ----/R-SSP/HQ Dated:

/20